

PRESS RELEASE

For immediate release

July 30, 2024

لائف انشورنس اور فیملی تکافل کی پالیسیوں کی آسان عکاسی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا

اسلام آباد: سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے لائف انشورنس اور فیملی تکافل کمپنیوں کی جانب سے بیمہ پالیسی کے فوائد، منافع کی ممکنہ شرح اور دیگر شرائط بارے صارف فراہم کئے جانے والی دستاویزات کا معیاری فارمٹ جاری کیا ہے۔ بیمہ پالیسی کے اس فارمٹ کا مقصد صارف کو زندگی بیمہ پالیسی کی شرائط و ضوابط، منافع اور مدت بارے واضح سمجھ بوجھ فراہم کرنا اور پالیسی ہولڈرز کو کسی بھی ممکنہ دھوکہ دہی سے بچائے گا۔ اس سلسلے میں، کمیشن کی جانب سے ایس آر او جاری کر دیا گیا ہے۔

لائف انشورنس اور فیملی تکافل آپریٹرز طویل مدتی مالی تحفظ اور بچت والی بیمہ پالیسیوں کے فوائد کو اجاگر کرنے کے لیے بیمہ پالیسیوں کے بارے میں صارفین کو ایک ٹیبل کی صورت میں پلان پیش کرتے ہیں جو کہ، جو عام طور پر 5 سے 20 سال تک کی مدت کی پالیسی کے لئے ہوتے ہیں۔ زندگی کی بیمہ پالیسی کے پلان کی عکاسی کرنے والے یہ پلان لائف انشورنس اور فیملی تکافل پالیسیوں کی فروخت کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہیں۔

بیمہ پالیسیوں کی عکاسی کرنے والے پلان کے نظر ثانی شدہ تقاضوں کا مقصد صارفین کو بہتر معلومات کی فراہمی کے ذریعے پالیسی کو سمجھنا اور اس سلسلے میں شفافیت پیدا کرنا ہے۔ اس دستاویزات میں کمپنیاں الاٹمنٹ چارجز، سیلز کمیشن کو واضح طور پر بتانا، منافع کے تخمینہ کو آسان طریق اور واضح فونٹ سائز میں فراہم کرنا ہو گا تاکہ پالیسی ہولڈرز آسانی سے سمجھ سکیں۔ مزید برآں، کمپنیوں کو کہا گیا ہے کہ پالیسی کے ممکنہ منافع کے منظرناموں کو تین سے کم کر کے دو کر دیں جبکہ اس میں افراط زر کی ایڈجسٹ شدہ اعداد کو شامل نہ کیا جائے اور پالیسی ہولڈرز کو صرف اور صرف حقیقی رقم کو ہی دکھایا جائے۔

کمیشن کی جانب سے لائف انشورنس اور فیملی ٹیک فل کمپنیوں، انشورنس ایسوسی ایشن آف پاکستان اور پاکستان سوسائٹی آف ایکچوریز سے وسیع مشاورت کے بعد اس ہدایت نامے کو نوٹیفائی کیا گیا ہے۔